

37943 - نہ توسحر#1740#&ک; اور نہ ہ#1740#&ہ; فجر ک#1740#&ل; نماز کے ل#1740#&مے
ب#1740#&ب; دارہوئی توک#1740#&ا; روزہ جار#1740#&رکھے#1740#&ا; توڑ دے؟

سوال

میں تین ہفتے قبل مسلمان ہوئی ہوں اور رمضان کے روزے رکھنے کا بہت شوق ہے ، میں دیر سے سوئی جس کی بنا پر میں سحری نہ کرسکی اور نماز فجر بھی رہ گئی ، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں جب سحری نہ کھاؤں اور فجر کی نماز ادا نہ کروں تو مجھ پر ضروری نہیں کہ میں اس دن روزہ مکمل کروں ، لہذا کیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے یہ توڑ دینا چاہیے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله

سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

دوم :

جب کوئی مسلمان کسی نماز کے وقت میں سویا ہوا ہو اور وہ بیدار نہ ہوسکے اور نماز کا وقت گزرنے کے بعد بیدار ہو تو اسے وہ نماز ترک نہیں کرنی چاہیے ، بلکہ جب بھی بیدار ہواسی وقت نماز ادا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ۔

اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

(چونماز ادا کرنا بھول جائے یا سویا رہے وہ یاد آنے پر نماز ادا کرلے تو اس پر اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں)
صحیح بخاری حدیث نمبر (597) صحیح مسلم حدیث نمبر (684) ۔

اور آپ کے سوال کے جواب کے بارہ میں گزارش ہے کہ :

آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ، اس لیے آپ پر اس دن کا روزہ مکمل کرنا واجب ہے ۔

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اور یہ کہ مسلمان سحری نہ کھا سکے یا پھر نماز فجر کے وقت بیدار نہ ہوسکے تو اسے روزہ میں مانع شمار نہیں کیا جائے گا ۔

اس لیے آپ روزے جاری رکھیں ، اور اگر آپ نے اس دن یہ گمان کرتے ہوئے روزہ افطار کر دیا تھا کہ روزہ واجب نہیں ، لہذا جب رمضان المبارک گزر جائے تو اس دن کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھیں ۔

واللہ اعلم .